

## زیادہ لوگ اپنے گھر میں قرنطینہ گزار سکتے ہیں

27 مئی کو قرنطینہ ہوٹل اسکیم میں تبدیلی کر دی گئی ہے جو اس بنیاد پر جس ملک میں آپ کا قیام رہا ہے وہاں انفیکشن کا دباؤ اب اس بات کا تعین کرے کہ آپ کو قرنطینہ ہوٹل رکنا ہے یا نہیں۔

یورپ میں انفیکشن کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور وزارت اب کوویڈ-19 کے ضوابط کے ضمیمے کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے اور اس میں مزید ممالک کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں آج سہ پہر تین بجے 15:00 سے لاگو ہوں گی۔

- یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یورپ میں انفیکشن کی شرح کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھر میں یا رہائش کے دیگر مناسب مقامات پر سفری قرنطینہ گزار سکتے ہیں جہاں دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کرنا ممکن ہو، الگ باتھ روم اور باورچی خانے کے ساتھ مثال کے طور پر اس کا اطلاق جرمنی اور اٹلی سے آنے والے مسافروں پر ہوتا ہے۔ وزیر انصاف اور عوامی سلامتی مونیکا میلینڈ (ایچ)۔

آئس لینڈ داخلے کے قرنطینہ سے مستثنیٰ ہے۔ مالٹا پیر 7 جون کی رات، نصف شب سے داخلے کے قرنطینہ سے مستثنیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالٹا سے براہ راست ناروے جانے والوں کو پیر 7 جون کی رات، نصف شب تک گھر پر قرنطینہ رہنا چاہیے اور پھر داخلہ قرنطینہ ختم ہو جاتا ہے۔ مالٹا سے آنے والے مسافر جو جو رستے میں جرمنی میں رکتے ہیں، جرمنی پر لاگو شدہ قرنطینہ گزارنا ہوگا۔

ان ممالک کی مکمل فہرست جہاں داخلے کے قرنطینہ کو آپ کی اپنی رہائش گاہ یا رہائش کی کسی اور مناسب جگہ پر گزارا جا سکتا ہے بے جہاں نجی کمروں، نجی باتھ رومز اور ایک علیحدہ باورچی خانے یا کھانے کی خدمت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے بچنا ممکن ہے:

فن لینڈ، مندرجہ ذیل علاقے:

ورسینا

کانتا۔ ہمے

پیرکنا  
پائی جت- ہمے  
کیمینلاکسو  
ایتلا - ساو -  
وسطی اوستروبوتهن  
ہیلسنکی اور اوسیما

جنوبی ڈنمارک  
بلغاریہ  
سان مارینو  
پولینڈ  
پرتگال  
لکسمبرگ  
رومانیا  
ویٹیکن  
آسٹریا  
لیٹنستان  
چیکیا  
سلوکیا  
سوئزرلینڈ  
ہنگری  
فاراؤ آئیلینڈ  
آئرلینڈ  
اٹلی  
برطانیہ  
جرمنی  
موناکو